

کیا عورتوں پر نماز عید واجب ہے؟  
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِ اللّٰهِ

الاستفتاء: کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا عورت پر نماز عید واجب ہے چند سالوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ لوگ عورتوں کو نماز عید کے لیے بلا رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ان پر بھی نماز عید واجب ہے؟

سائلہ: فاطمہ (انگلینڈ)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ  
 الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمٰلِكِ الْوَهَّابِ اللّٰهُمَّ اجْعَلْ لِي النُّورَ وَالصَّوَابَ

عورت پر نماز عید واجب نہیں ہے جو واجب ہونے کا قول کر رہے ہیں ان سے دلیل طلب کی جائے کہ جب عورتوں پر فرض نماز کی جماعت کے ساتھ حاضر ہونا واجب نہیں تو عید کی نماز جوکہ واجب ہے اس کی جماعت میں حاضر ہونا کہاں سے واجب ہوگا۔ بلکہ ان کا کسی بھی نماز کی جماعت کے لیے حاضر ہونا ہونامکروہ ہے۔

جیسا کہ درمختار میں ہے: (وَيُكْرَهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةُ وَلَوْ لِجُمْعَةٍ وَعِيدٍ وَوَعْظٍ  
 (مُطْلَقاً) وَلَوْ عَجُوزًا لَيْلًا (عَلٰى الْمَذَهَبِ) الْمُفْتَى بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ")  
 (عورتوں کا جماعت کے حاضر ہونا مکروہ ہے) اگر چہ جمعہ یا عید اور وعظ کی ہو (مطلقاً) اگر چہ بڑھیا ہو اگرچہ رات ہو (مکروہ ہے ہمارے مذہب پر) اس مذہب پر جس پر فساد زمان کی وجہ سے فتویٰ ہے۔

(درمختار مع ردار المختار باب الامامة ج 1 ص 556)

اور بہار شریعت میں ہے: عورتوں کو کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین، خواہ وہ جوان ہوں یا بڑھیاں ہوں۔

وَاللّٰهُ تَعَالٰى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

کتبہ ابو الحسن محمد قاسم ضیاء قادری

Date: 29-11-2018

## Is 'Eid Salāh wājib for women?

الحمد لله والصلوة والسلام على رسول الله

### QUESTION:

What do the scholars of the Din and muftis of the Sacred Law state regarding the following issue: Is 'Eid Salāh wājib for females? I have been noticing for a number of years that people have been inviting women for 'Eid Salāh and have been saying that it is wājib for them.

Questioner: Fatimah from England

### ANSWER:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الجواب يَعُونَ الْمَلِكَ الْوَهَابَ اللَّهُمَّ هَدِيَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

'Eid Salāh is not wājib for a woman; evidence should be sought from those who say otherwise. When it isn't wājib for women to pray with congregation for a Fard [obligatory] Salāh, then how can it be so for 'Eid Salāh which is wājib? In fact, it is makrūh [disliked] for women to pray with congregation for any salāh for that matter.

Just as it is stated in Durr Mukhtār,

"(وَيُكَرَّهُ حُضُورُهُنَّ الْجَمَاعَةُ (وَلَوْ لِجَمْعَةٍ وَإِيدٍ وَوَعْظٍ مُطْلَقاً) وَلَوْ عَجُوزًا لَيْلًا) عَلَى  
الْمُذَهَّبِ (الْمُفْتَنِي بِهِ لِفَسَادِ الزَّمَانِ)"

"(It is makrūh for females to attend congregational prayer) even if it is for Jum'ah, 'Eid or a sermon/function (generally speaking). Even if it is an old woman, even if in the dark. (For our stance i.e. in our school of thought, it is makrūh); this is the legal verdict due to the immorality of this day & age."

[Durr Mukhtār ma' Radd al-Muhtār, vol 1, pg 556]

Likewise, it is stated in Bahār-e-Shari'at that for females to go to congregation for any salāh is not permissible, be it salāh in the day or night; be it for Jum'ah or for both 'Eids; be she young or old. Similarly, for her to go to sermons, gatherings etc. is not permitted.

[Bahār-e-Shari'at, vol 1, part 3, pg 584]

وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ  
كتبه أبو الحسن محمد قاسم ضياء قادری

Answered by Mufti Qasim Zia al-Qadri

Translated by Haider Ali